



سوال

(72) مسح کا طریقہ

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

مولانا عبدالمتین میمن جو ناگدھی صاحب نے اپنی کتاب (حدیث نماز کے صفحہ 35) پر ایک حدیث بخاری و مسلم کے حوالہ سے تیمم کے بارے میں لکھی ہے اور اس حدیث کے ترجمہ میں ہاتھوں کا مسح پہلے کرنا اور پھرے کا مسح بعد میں کرنا لکھا ہے، میں عربی الفاظ لکھ رہا ہوں اگر مولانا صاحب نے اس کا ترجمہ صحیح نہیں کیا تو آپ صحیح لکھ دیں۔ (شفن خان چاچڑ، سنٹر جمیل بہاولپور)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مولانا عبدالمتین میمن نے بخاری و مسلم کی جو حدیث تیمم کے بارے میں حدیث نماز میں نقل کی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے وہ درست ہے اور تیمم میں پہلے ہاتھوں پر مسح پھر پھرے پر کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے اور یہ اس طرح درست ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

تفہیم دین

کتاب الطہارة، صفحہ: 110

محدث فتویٰ